

مضمون کا ترجمہ از ڈاکٹر انعام الحق جاوید) ۴۔ ترکی میں اردو (از کرنل مسعود اختر شیخ)
 ۵۔ چین میں اردو (از کوثر جمال) ۶۔ ذخیرہ شیرانی میں اردو منخطوطات (از سید صبیل احمد
 رضوی) ۷۔ بلوچی سے اردو تراجم (ڈاکٹر انعام الحق کوثر) ۸۔ اردو اور صوفی ازم
 (از ڈاکٹر مرزا حامد بیگ) ۹۔ پشتو سے اردو تراجم حصہ اول (از پروفیسر خٹک) ۱۰۔ قومی
 یک جہتی اور ادب کا کردار (از ڈاکٹر وزیر آغا) ۱۱۔ عزیز احمد۔ کتابیات (از ڈاکٹر مرزا
 حامد بیگ)۔
 یہ خدمت بہت قابل قدر ہے۔

سوویٹ طرزی جاسوسی تنظیم | مصنف - ڈاکٹر سفاروق - اردو ترجمہ از موسیٰ خان خلال زئی۔
 ناشر: سید جمال الدین افغانی اسلامی اکیڈمی، لاہور۔ قیمت: ۳۰ روپے
 مدعا کتاب کے نام سے ہی ظاہر ہو جاتا ہے۔ روس کی فوجی جاسوسی تنظیم (G. R. U) اکاڈمی
 آدمیوں کی تیاری، ان سے کام لینے کے طریقے، خاص طور پر نشان زد علاقوں میں جنگ سے پہلے یا
 دوران جنگ میں جاسوسی کرنے کا فن، وغیرہ معلومات سادہ انداز سے تحریر کی گئی ہیں۔

سید احمد شہید کی اردو تصانیف | از مولانا ڈاکٹر محمد عبد الحلیم چشتی - ناشر: الرحیم اکیڈمی،
 اے ۷ اعظم نگر، لیاقت آباد - کراچی ۱۹۔ قیمت: ۱۲ روپے
 یہ کتاب بھی اسی لیے روکے رکھی کہ شاید کبھی اس پر زیادہ گفتگو کرنے کا موقع ملے۔ مگر اب مجبوراً
 اتنا ہی لکھنا ہے کہ اس کتاب کا اصلی موضوع یہ ہے کہ سید صاحب کی تصانیف اور تحریک کا اردو
 ادب پر کیا اثر پڑا۔

یہ ایک مفید اور ضروری بحث ہے، مگر چشتی صاحب نے صرف اردو کے ذہنی انداز کے مقالاتی
 ادب کو لیا ہے۔ حالانکہ شاعری پر بھی ان کا بہت بڑا اثر پڑا۔ یہ پہلو ساقط ہو گیا۔
 دوسرا قابل توجہ نکتہ یہ ہے کہ سید صاحب کی شخصیت علیہ اسلام اور احیائے دین کی ایک علامت
 ہے۔ اس کو فقہی اختلافی نزاعات کے درمیان کھڑا کر کے دکھانا خود سید صاحب کے مقصد کو نقصان